

6388 - خاوند کے رشتہ داروں کی بیوی کی زندگی میں دخل اندازی کی حد کیا ہے

سوال

اسلام میں خاوند کے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں ، کیا ساس اور سسر کی طرح خاوند کے بھائیوں کا بھی اطاعت کا حق ہے ؟

کیا انہیں میرے کمرے میں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجازت یا بغیر اجازت داخل ہوں ؟
میں کس حد تک ان کی اطاعت کروں کپڑے دھونے ، اور کھانا وغیرہ تیار کرنے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور گھرسے نکلنے میں بھی ان کی اطاعت ہے ، اور کیا انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہماری ازدواجی زندگی میں دخل اندازی کریں ؟

کیا ہمارے کام اور رہن سہن ، تعلیم و تربیت وغیرہ میں بھی ان کا حق ہے ، اور کیا مجھے اپنے میکے جانے کے لیے ان کی اجازت درکار ہوگی ؟

اور کیا انہیں ہماری زندگی کی تفصیل کی معرفت کا بھی حق ہے ، اور کیا میں اپنے خاوند کے رشتہ داروں سے مصافحہ کرنے میں ان کی اطاعت کروں ؟

اور کیا میرے اور خاوند کے لیے ایسی شادیوں میں جانا جائز ہے جہاں برائی ہو ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

بیوی پر خاوند کے رشتہ داروں کی اطاعت کرنا واجب نہیں چاہے وہ ساس ہو یا سسر ، یا پھر نند ہو یا دیور ان کی کسی بھی چیز میں اطاعت کرنی واجب نہیں لیکن اگر وہ کسی واجب اور شرعی چیز کا حکم دیں یا کسی غیر شرعی اور حرام چیز سے روکیں تو پھر اس میں اطاعت واجب ہے چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا یا کوئی اور بھی کیوں نہ ہو ۔

اور خاوند کی اطاعت تو بیوی پر واجب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں ۔۔ النساء (34) ۔

ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ خاوند کے بیوی پر حقوق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں :

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر خاوند کا حق اور اس کی اطاعت واجب کی ہے ، اور بیوی پر خاوند کی نافرمانی حرام ہے اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بیوی پر فضیلت دی ہے ۔ اہ تفسیر ابن کثیر (1 / 493) ۔

آپ کے دیوروں میں کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمرہ یا پھر گھر میں داخل ہو ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اے ایمان والو ! تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو ، یہی تمہارے لیے بہتر اور اچھا ہے تا کہ تم نصیحت حاصل کرو النور (27)

اور اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے اجازت سے گھر میں داخل ہو اور وہ آپ کا محرم بھی نہیں مثلاً دیور تو اس میں شرط ہے کہ آپ کے محرم کا موجود ہونا ضروری ہے تا کہ آپ کے درمیان خلوت پیدا نہ ہو جو کہ حرام ہے ، اور پھر آپ بھی شرعی پردہ میں ہوں اور فتنہ کا بھی ڈر نہ ہو ۔

ان شروط کے باوجود افضل اور بہتر اور دل کو صاف رکھنے اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ آپ کے کمرہ میں نہ داخل ہوں ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور جب تم نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے الاحزاب (53) ۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

(تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو ، ایک انصاری آدمی کہنے لگا : اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیور کے بارہ میں تو بتائیں ؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : دیور تو موت ہے (صحیح بخاری حدیث نمبر (5232) صحیح مسلم حدیث نمبر (2172) ۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان (دیور تو موت ہے) کا معنی ہے کہ دوسروں سے زیادہ اس سے خدشہ اور برائی اور فتنہ اس سے زیادہ متوقع ہے ، اس لیے کہ عورت کے پاس جانے اور اس سے خلوت کرنا اس کے لیے ممکن ہے اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر کوئی انکار بھی نہیں کرتا لیکن اگر کوئی اجنبی ہو تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ۔

اورحمو سے مراد خاوند کے آباء واجداد اوراولاد کے علاوہ دوسرے رشتہ دار مراد ہیں ، خاوند کے آباء واجدا اوراس کی اولاد توبیوی کے لیے محرم ہیں ان کے لیے خلوت جائز ہے ، جنہیں موت کا وصف نہیں دیا جاسکتا ، بلکہ اس سے مراد خاوند کے بھائی ، بھتیجھے ، چچا ، اور چچا کے بیٹے وغیرہ جوکہ اس کے محرم نہیں وہ مراد ہیں ۔

اوران کے بارہ میں لوگوں کوتساہل کی عادت ہے ، اوربہابھی اپنے دیور سے خلوت کرتی ہے ، اورپہی موت ہے ، اوراجنبی سے بھی اس کا منع کرنا اولیٰ ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ۔ اھ ۔

ان سب کے لیے یہ جائز نہیں اورنہ ہی ان کا حق ہے کہ آپ کوان کاموں پر جوآپ نے ذکر کیے ہیں مجبور کریں مثلاً کھانا پکانے یا پھر آپ کے لباس کے بارہ میں یا اس کے علاوہ کوئی اورکام اورتعلیم وتربیت وغیرہ ۔۔ صرف یہ ہے کہ وہ بطور نصیحت اوراچھی بود باش کے لیے وہ آپ کواس کے بارہ میں کہہ سکتے ہیں نہ کہ اجباری طور پر ۔

اوران کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ آپ اورآپ کے خاوند کے خصوصی معاملات میں دخل اندازی کریں ، لیکن اگر انہوں نے آپ کے خاوند کواس پر مطمئن کرلیا کہ آپ مباح اورجائز قسم کی راحت حاصل کرنے کے لیے بھی گھرسے نہ نکلیں اورخاوند آپ کوگھرمیں ہی رہنے کا کہے توپھر آپ اپنے خاوند کی اطاعت کریں اورصبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کریں ۔

اپنے میکے جانے کے لیے بھی آپ پر یہ لازم نہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک سے اجازت طلب کریں اورنہ ہی ان کا یہ حق ہے ، بلکہ آپ پر واجب آپ پرواجب توبہ ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لیں اگر وہ اجازت دیتا ہے توپھر ان میں سے کسی ایک سے بھی اجازت لینی واجب نہیں ۔

اوراسی طرح وہ آپ دونوں کی ازدواجی زندگی کی تفصیلات کی معرفت کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے ، اورآپ کے خاوند کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ اوراس کے مابین استتماعی راز انہیں بتائے ۔

آپ کے خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی ساتھ حسن سلوک اورنیکی کرے ، اورآپ کو بھی اس میں اس کا مدگار معاون بننا چاہیے ، اورآپ اپنے خاوند اوراس کے والدین کے درمیان قطع تعلق کا سبب بننے کی کوشش نہ کریں ، بلکہ صلہ رحمی میں اس کا تعاون کریں ، ان شاءاللہ آپ کواس انجام اورنتیجہ اپنی اولاد میں پائیں گی ۔

آپ کے خاوند کوچاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ضرورت کے مطابق زیارت کرتا رہے اورانہیں ملتا رہے ، ہوسکتا ہے کہ والدین کو اپنے بیٹے کی زیادہ ضرورت ہو مثلاً وہ بیمار ہوں توآپ کے خاوند کواس کا خیال رکھنا چاہیے ۔

ساس اورسسر کی خدمت کرنا آپ پر واجب تونہیں لیکن اگرآپ ان کے ساتھ حسن سلوک اوراحسان کرتے ہوئے اوراپنے خاوند کوخوش کرنے کے لیے کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر اور اچھا ہے ، اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ آپ کواس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا ، اورپھر اس وجہ سے آپ اپنے خاوند اوراس کے گھروالوں کے سامنے دنیا میں

بھی ایک مقام حاصل کریں گی ، اور ان شاء اللہ آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے ۔

اور مستقل رہائش کے بارہ میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے خاوند پر واجب ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسی رہائش کا انتظام کرے جس میں آپ مستقل طور پر رہ سکیں ، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اگر گھر بہت بڑا اور کھلا ہے اور اس میں آپ سب رہ سکتے ہوں تو والدین اور آپ اکٹھے رہیں اس میں آپ پر کوئی ضرور اور نقصان نہیں ۔

اور یہ کہ آپ کی زندگی ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے ماتحت رہے تو آپ کی ساس اور سسر کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ دونوں پر مسلط ہوئے رہیں ، آپ اپنے خاوند کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں ، اگر تو وہ اس معاملہ کو ختم کرسکے تو اچھی بات وگرنہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کے گھر والوں سے حکمت و دانش مندی سے بات کریں ، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانیں تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت رکھیں ۔

آپ کا اپنے محرم مردوں کے علاوہ دوسروں سے مصافحہ کرنا حرام ہے ، اس میں آپ کسی کی بھی بات نہ مانیں ، اس لیے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ، آپ اجنبی عورت کے مصافحہ کے بارہ میں حکم جاننے کے لیے سوال نمبر (21183) کے جواب کا مطالعہ کریں ۔

آپ اور آپ کے خاوند کے لیے حلال نہیں کہ وہ شادی کی ایسی تقریبات میں شرکت کرے جہاں پر معاصی اور گناہ کے کام ہوں ، آپ اس کی مزید تفصیل کے لیے سوال نمبر (10957) کے جواب کا مراجعہ کریں ۔

اور آخری بات یہ ہے کہ ---

خاوندوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور ان کی اطاعت کریں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود پہلانگنے لگیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کریں اور نہ ہی ظلم کرنے پر ان کی معاونت کریں ، اور اس ظلم میں بھو پر ظلم بھی شامل ہے ۔

خاوندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے احسن انداز میں مجادلہ اور گفتگو کریں ، اور اللہ تعالیٰ اطاعت اور ان کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کریں ، اور انہیں حق کے بارہ میں جرات مند ہونا چاہیے ، اور جو لوگ ان کے گھروں میں شریعت کی تطبیق اور اسے نافذ کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں انہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ، اس لیے کہ مسلمان تو سوائے قرآن اور سنت کے علاوہ کسی کے سلطہ کو تسلیم نہیں کرتا ، اور انہیں ان لوگوں سے احتراز کرنا اور بچنا چاہیے جو انہیں برائی کی دعوت دیتے ہیں ۔

اور اگر خاوند یہ دیکھے کہ شرعی مصلحت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے گھروالوں اور بیوی کے گھر میں دوری ہونی چاہیے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج اور نقصان نہیں بلکہ اسے ایسا کرنا چاہیے ۔

اور ہمارے اخلاق اور سینے کھلے اور وسیع ہونا ضروری ہیں ، اور ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے ، اور آپس میں ایک دوسرے کے فضل کو نہیں بھولنا چاہیے ، اور ہمیں نیکی کا حکم کرنا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ، اور برائی اور برے سلوک کو نیکی اور اچھے سلوک سے ختم کرنا چاہیے ، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہم وہ بات کہیں جو اچھی ہو تا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اچھی ملاقات کر سکیں ۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ سب کے حالات کی اصلاح فرمائے ، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے ۔

واللہ اعلم .